

تفسیر و توضیح کی وحدت اور اس مقصد کے لیے مختلف مقامات پر اجتماعات کے انعقاد پر زور دیا گیا۔ اس سیمینار میں قرآن کریم کی توضیح و تفسیر پر کی جانے والی انفرادی و اجتماعی کوششوں کا ذکر کیا گیا اور ان کوششوں کے اسالیب و منابج پر بحث کی گئی نیز مختلف موضوعات پر تحقیقی مقالات پیش کیے گئے۔ (اخبار الفکر الاسلامی، اربک، اگست ۱۹۸۹ء)

مطالعہ قرآن کمیٹی اقوام متحدہ کے دفتر میں

دیباچہ میں اقوام متحدہ کے دفتر میں پہلی بار مطالعہ قرآن کمیٹی کے نام سے ایک جمعیت کا قیام عمل میں آیا ہے۔ جو ماہ فروری سے اپنی سرگرمیاں شروع کر چکی ہے۔ یہ جمعیت تفسیر قرآن، مطالعہ قرآن، وعظ و ارشاد اور سہ جمعرات کو دینی اجتماعات اور اسلامی لکچروں کا اہتمام کرتی ہے۔ یہ لکچر عربی اور انگریزی زبانوں میں دیئے جاتے ہیں تاکہ حاضرین مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔

اس کے علاوہ مذکورہ زبانوں میں وعظ و تقریر اور پرمغز خطبوں کا باقاعدگی سے اہتمام کیا جاتا ہے جن میں سامعین کو دین کے اصول اور اس کی منشا کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ کمیٹی اب تک معجزات قرآن اور معراج کے موضوعات پر متعدد لکچروں کا اہتمام کر چکی ہے۔

(سر روزہ دعوت دہلی، اکتوبر ۱۹۸۹ء)

یونانی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ

ایٹھنس عرب یونان ثقافت کے فروغ کے لیے قائم کی گئی ایٹھنس کی ایک تنظیم (الراٹو ایونانیتہ العربیہ) کے ثقافتی مشیر ڈاکٹر علی نور نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی تنظیم قرآن کریم کا یونانی زبان میں ترجمہ شائع کر رہی ہے اور اس ترجمہ کا مقصد یونانیوں میں قرآنی تعلیمات کا فروغ اور بعض ان ترجموں کو الگ تھلک کر دینا ہے جو قرآنی مفہیم کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ یہ ترجمہ دس سال کی مدت میں مکمل ہوا ہے اور اس کو ازہر شریف (مصر) اور یونان کے معتبر علماء کی مراجعت کے بعد شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ ترجمہ یونانی عوام کے درمیان بلا معاوضہ تقسیم کیا جائے گا۔ (قومی آواز، نئی دہلی، نومبر ۱۹۸۹ء)